

Q:7) Translate the following into English (10)

كبهى كبهى ميں خاموشى سے اپنے آپ سے يه سوال كرتا هوں كه آخر ميں
اپنى منزل كے بارے ميں اتنا غير سنجيده كيوں هوں۔ دل كے كسى گهرے

گوٹھے میں یہ احساس ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ میری زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے، ایک ایسی منزل جو میری ہستی کو معنی دے سکتی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ میں خود ہی اپنی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہوں۔ وقتی آسائشیں، معمولی مصروفیات اور سستی میرے ارادوں کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتی ہیں۔ جب رات کی تنہائی میں اپنے دن کا محاسبہ کرتا ہوں تو دل پر ایک بوجھ سا اتر آتا ہے، جیسے میں نے اپنے ہی خوابوں کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ شاید مسئلہ قابلیت کا نہیں بلکہ عزم کی کمی کا ہے۔ جس دن میں نے اپنے مقصد کو اپنی خواہش نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ لیا، اسی دن میری زندگی کا رخ بدل جائے گا۔

DATE: _____

M T W T F S S

Q: Translate the following into English

→ Sometimes I quietly ask question
from myself that why ^{am} I ~~am~~ not
serious about my destination.

However, in any corner of my heart,
the feeling is present, that there is
some big meaning of my life which
will give color to my destination. But
the strange thing is that I myself is a
barrier. Temporary luxurious, little
business and laziness is trying to
weaken my will. During night, when
I look over my day, my heart
feels down and I think that I
myself is doing injustice to my
dreams. The problem is not of intelligence
but determination. Whenever, I considered
my dream as responsibility not
wish, then my life take a
new turn.

S/D

BASIC GRAMMAR ISSUES